



سوال

(327) باجماعت نماز پڑھنے والوں کو سلام کہنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

نماز باجماعت کے دوران، جب کہ قرأت بھی شروع ہو چکی ہو، کیا باہر سے آنے والے کے لیے سلام کہنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا وضاحت سے جواب تحریر فرمائیں۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بحالت نماز سلام کہنا صرف جائز ہی ہے۔ ضروری نہیں، جب کہ اس کا جواب اشارے سے دیا جائے گا۔ زبان سے نہیں۔ چنانچہ ”سنن ترمذی“ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے؟ فرمایا:

”کان یُشیر بیدہ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ ”سنن الترمذی، باب ما جاء فی الإشارة فی الصلاة، رقم: ۳۶۸“

جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ صاحب ”المرعاة“ فرماتے ہیں: کہ یہی بات حق ہے۔ صحیح صریح احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو! ”مرعاة المفاتیح (۱۲/۲)“

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوة: صفحہ: 309

محدث فتویٰ